

Consulting | Training | Web based  
**Taxation Support Services**

### TAX TIP OF THE WEEK

Approved Annuity Plan means an Annuity Plan approved by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) under Voluntary Pension System Rules, 2005 and offered by a Life Insurance Company registered with the SECP under Insurance Ordinance, 2000.

### BUSINESS TERM OF THE WEEK

#### Financial leverage

The use of borrowed money to increase production volume, and thus sales and earnings. It is measured as the ratio of total debt to total assets. The greater the amount of debt, the greater the financial leverage.

### QUOTE OF THE WEEK

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

**Thomas Aquinas**

### WEEKLY UPDATES (SROs, Circulars etc.)

#### Income Tax

No Update

#### Sales Tax

General Order # 56 of 2015 13-Apr-2015

General Order # 57 of 2015 13-Apr-2015

#### Federal Excise Duty

No Update

### MEMBERS QUERIES

**Question:** Please let me know the exact rate of advance income tax on the following, 1- payment made to advertisement agent/agency 2- payment made to a Newspaper directly (like Jang etc) 3- payment made for a television commercial.

**Answer:** The provisions of section 153(1)(b) is not applicable to the news print and electronic media services in respect of the advertising services. {Cl. 16A, P IV, 2nd Schedule}.

**Question:** An individual is Salaried Person for the Tax year 2012 and his income from property is Rs. 240,000/- on which tax is Rs. 4500 what is the treatment of tax on income from property?

**Answer:** Salary income shall be taxed under normal tax regime as per rates prescribed in Clause (1A), Part I of First Schedule and Property income shall be taxed as separate block of income where tax amounting to Rs. 4,500/- is final tax.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ وَرَبُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظَّالِمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Surah Al-Baqara, Ayat 257

<b>Maulana Muhammad Joona Garhi</b>	ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
<b>Maulana Ishaq Madni</b>	اللہ کارساز (اور مددگار) ہے ان لوگوں کا جو (سچے دل سے) ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر لاتا ہے روشنی کی طرف، اور اس کے برعکس جو لوگ اڑے ہوئے ہیں اپنے کفر و باطل پر، ان کے حامی و دوست طاغوت ہیں، جو ان کو (ہدایت و ایمان کے) نور سے نکال کر لے جاتے ہیں (کفر و شرک، اور شکوک شبہات کے گھٹا ٹوپ) اندھیروں کی طرف، ایسے لوگ ساتھی، (اور دوست) ہیں (دوزخ کی اس ہولناک) آگ کے، اور ان (بد بختوں) کو اس میں ہمیشہ رہنا ہو گا، ۴
<b>Maulana Mahmood ul Hassan Deobandi</b>	اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق شیطان نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کے طرف یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے
<b>Maulana Fateh Muhammad Jalandhri</b>	جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
<b>Maulana Ahmad Ali Lahori</b>	اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے
<b>Maulana Abul Aala Maududi</b>	جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ ۲۸۷ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ۲۸۸ ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ۳۴
<b>Maulana Abdur Rehman Kilani</b>	اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں (کفر و شرک کے) اندھیروں سے نکال کر (اسلام کی) روشنی کی طرف لے آتا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں [۳۶۷] کی طرف لے جاتے ہیں ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے
<b>Maulana Taqi Usmani</b>	Allah is the Protector of those who believe. He brings them out of the depths of darkness into the light. As for those who disbelieve, their friends are the Rebels. They bring them out from the light into the depths of darkness. Those are people of the Fire. There they will remain forever.
<b>Maulana Abdul Majid Daryabadi</b>	Allah is the Patron of those who believe; He bringeth them forth from darknesses into the light; And, for those who disbelieve, the devils are their patrons; they bring them forth from the light into darknesses. These are the fellows of Fire, therein shall be abiders.
<b>Sahih International</b>	Allah is the ally of those who believe. He brings them out from darknesses into the light. And those who disbelieve - their allies are Taghut. They take them out of the light into darknesses. Those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein.

صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر ۱۳۰۰ حدیث مرفوع مکررات ۱۶ متفق علیہ

یحییٰ بن بکیر، لیث، خالد، سعید بن ابی ہلال، نعیم مجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں (ایک مرتبہ) ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسجد کی چھت پر بیٹھا، تو انہوں نے (وہاں) وضو کیا (اور) کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے غر محجوبوں (کہہ کر) پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وضو کی تکمیل کر کے ایسا کرے۔